

14041 - مجھے ایمان قوی کرنے کا کوئی نسخہ بتائیں

سوال

کیا آپ مجھے کوئی ایسا روحانی لیٹر ارسال کر سکتے ہیں کہ جو میرا ایمان قوی کر دے حالانکہ میں نماز روزے کی پابندی کرتا ہوں اور اسلام کی بنیادی چیزوں پر عمل کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا اور نہ ہی مدافعت کرتا اور نہ ہی مکمل کوشش کرتا ہوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اسی ویب سائٹ پر < **ظاہری کمزور ایمان** > کے موضوع پر ایک لیٹر موجود ہے جس میں بہت سے لوگوں کی کمزور ایمان کی مشکل کا مکمل بیان اور اس کا علاج اور اسباب بیان کئے گئے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ان شاء اللہ ہماری نصیحت ہے کہ اسے پڑھیں اور اس کا ایڈریس یہ ہے .

مندرجہ بالا میں اضافہ کے ساتھ کبار اہل علم کی دو نصیحتیں ہیں جو کہ آپ کی مراد ومطلب کو مختصر کر دیں گی :

1- ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کثرت سے تلاوت اور اس کی سماعت کیا کریں اور جو پڑھیں اور سنیں اس کے معانی پر حسب استطاعت غور وفکر کیا کریں تو جو چیز آپ کو مشکل لگے اسے اپنے ملک میں اہل علم سے پوچھ لیں یا پھر علمائے اہل سنت سے لکھ کر معلوم کر لیا کریں -

مثلا لا اله الا الله اور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وغيره

اور اس کے متعلق ابن تیمیہ کی کتاب < **الكلم الطيب** > اور ابن قیم کی < **الوابل الصيب** > اور امام نووی کی < **رياض الصالحين** > اور < **الاذکار النوویة** > اور اس طرح کی کتابیں پڑھیں -

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان میں زیادتی اور دل کے اطمینان کا سبب ہے -

فرمان باری تعالیٰ ہے :

" خبردار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں "

اور نماز اور روزوں اور باقی ارکان اسلام کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور اپنے معاملات میں اس پر توکل کریں -

فرمان باری تعالیٰ ہے :

" ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے "

مستقل فتویٰ کمیٹی (اللجنة الدائمة 3/ 185 - 186)

2- اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایمان زیادہ اور معصیت سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے تو آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی بروقت اور مسجد میں واجب کی اس کی حفاظت کریں اور اسی طرح دلی لگاؤ سے زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے گناہوں سے پاکی اور فقراء اور مساکین کے لئے رحمت کا باعث ہو گی -

آپ اہل خیر اور اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کریں جو کہ آپ کے لئے شریعت کی تطبیق میں معاون ثابت ہو گی اور وہ دنیا و آخرت کی سعادت کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے -

اور برے بدعتی اور گناہ گار لوگوں سے دور رہیں تا کہ وہ آپ کو کہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں اور آپ میں خیر و بھلائی کے عزم کو کمزور نہ کر دیں -

اور کثرت سے نوافل اور خیر و بھلائی کے کام کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہو اور اس سے توفیق طلب کرتے رہو-

اگر آپ نے یہ کام سر انجام دیئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو زیادہ کر دے گا اور جو آپ سے بھلائی کے کام چھوٹ گئے ہیں آپ انہیں حاصل کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ اسلام کی راہ پر آپ کے احسان اور استقامت میں زیادتی فرمائے

اللجنة الدائمة للافتاء (3/ 187)

والله اعلم .